

93414 - زكاة کے مالی سال کے دوران حاصل ہونے والے مال کی زكاة

سوال

زكاة كيلئے معتبر مال نصاب پورا ہونے کے وقت والا مال ہوگا يا ايک سال گزرنے کے بعد موجود مال معتبر ہوگا؟
يعنى اگر نصاب پورا ہونے کے وقت مال کی مقدار 10000 تھی، اور ايک سال گزرنے کے بعد مال کی مقدار 50000 ہوگئی تو اب ان دونوں میں سے کونسا مال زكاة نکالنے كيلئے معتبر ہوگا؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

اول:

نقدی نوٹوں میں زكاة واجب ہونے كيلئے دو چیزوں کا ہونا شرط ہے:

اول: نصاب کے برابر ہوں۔

دوم: نصاب کے برابر رقم پر ايک سال گزر جائے۔

چنانچہ اگر مال نصاب سے کم ہو تو اس میں زكاة واجب نہیں ہے۔

چنانچہ اگر مال نصاب کے برابر ہو، اور اس پر ايک قمری (ہجری) سال بھی گزر جائے، تو اسوقت اس میں زكاة واجب ہوگی۔

اور نصاب یہ ہے کہ نقدی رقم 85 گرام سونا، يا 595 گرام چاندی کے برابر ہو۔

اس نصاب کی زكاة ادا کرنے كيلئے چالیسواں حصہ يعنى 2.5٪ دینا ضروری ہے۔

دوم:

1000 کی مقدار میں مال نصاب کے برابر ہو جائے، اور پھر سال مکمل ہونے تک یہ مال بڑھ کر 5000 ہو جائے تو اسکی زكاة کیسے دے گا؟

اس میں کچھ تفصیل ہے:

1- اگر یہ اضافہ اصل [رأس المال] کے نفع کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی 1000 ہزار کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، تو اسے 4000 کا نفع ہوا، تو اسے سال کے آخر میں سارے مال کی زکاۃ دینی ہوگی، کیونکہ نفع اصل [رأس المال] کے تابع ہوتا ہے۔

2- اور اگر یہ اضافہ اصل رأس المال کی وجہ سے نہیں ہوا بلکہ وراثت، تحفہ، یا کسی چیز کے فروخت کرنے کی وجہ سے، یا پھر کسی اور طریقہ سے آیا ہے، تو اسکی زکاۃ کیلئے الگ سال شمار ہوگا، جو کہ اس اضافی مال کی آپکی ملکیت میں آنے سے شروع ہوگا، اور اگر آپ اس اضافی مال کی زکاۃ پہلے والے 1000 کیساتھ دینا چاہیں تو یہ آپکی طرف سے اس اضافی مال کی زکاۃ ایڈوانس ادا ہوجائے گی، جس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔

3- بسا اوقات اضافہ ہونے والا مال بتدریج حاصل ہوتا ہے، مثلاً: انسان کی بچت سے یہ اضافہ ہوا، مثلاً ہر ماہ 500 بچائے تو سال کے آخر تک اسکے پاس 4000 ہوگئے، تو اس صورت میں آپکو اختیار ہے، کہ آپ سارے مال کی اکٹھی زکاۃ ادا کریں، تو اس صورت میں آپ اس رقم کی زکاۃ وقت سے پہلے ادا کریں گے جس پر ابھی ایک سال نہیں گزرا، اور اگر آپ ہر ماہ حاصل ہونے والے مال کیلئے الگ سے سال شمار کرتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں آپکو حساب رکھنے میں مشقت ہوگی، کیونکہ اس طرح سے آپکو سال میں کئی بار زکاۃ ادا کرنی پڑے گی۔

مزید تفصیل کیلئے آپ سوال نمبر: (50801) کے جواب کا مطالعہ فرمائیں۔

واللہ اعلم.